



سوال

(667) اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مجھے دنیوی امور میں سے جب کسی کام کی توفیق مل جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرمادیتا ہے تو مجھے یہ گمان گزرتے لگتا ہے کہ میں نے شاید کوئی گناہ کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مہلت رہی ہے کہ میرے کام سہرا انجام پا رہے ہیں، میرا یہ خیال کہاں تک صحیح ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس حال میں شریعت کا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور اس نے آپ پر جو احسان فرمایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اس کی اطاعت اور بندگی کا کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اس ناراضی سے بچیں، اس کے حق کو ادا کریں اور دین پر استقامت کا ثبوت دیں۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 506

محدث فتویٰ